



سوال

(141) تصویریں کھینچنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میرے پاس ایک کیمرا ہے جس سے میں کسی پروگرام یا سیر و سیاحت کے موقع پر تصویر لیتا ہوں۔ کیا یہ ناجائز ہے؟ اسی طرح میں نے اپنے کمرے میں بعض فلمی اداکاروں کی تصویریں دیواروں پر لٹکا رکھی ہیں اور میرے پاس ایسے میگزین بھی ہوتے ہیں۔ جن میں عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ کیا ان تصویروں کا میرے کمرے میں ہونا اسلامی شریعت کے خلاف ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

کیمرے سے تصویر لینے کے سلسلے میں مصر کے سابق مفتی علامہ الشیخ محمد نجیح الملعفی نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اسی سلسلے میں انھوں نے ایک کتابچہ بعنوان "الجواب الکافی فی إباحۃ التصوير الفوتوغرافی" بھی تصنیف کی ہے جس میں انھوں نے مدلل طریقے سے واضح کیا ہے کہ کیمرے سے تصویر لینا جائز اور مباح ہے۔ کیونکہ درحقیقت کسی کی تصویر لینا تخلیق نہیں ہوتا جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے بلکہ یہ تو انسان کے عکس کو کاغذ کے ٹکڑے میں محفوظ کرنے کا عمل ہے۔ اس لیے عربی زبان میں اسے، عکس، بھی کہتے ہیں اور تصویر لینے والے کو، عکاس کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ انسان یا کسی بھی شے کے عکس کو محفوظ کرتا ہے ویسے ہی جیسے یہ کام آئینہ انجام دیتا ہے یہ وہ کام نہیں ہے جیسا کہ فن کارہتروں کو تراش کر اسٹیمپ بناتے ہیں اور خدا کی تخلیق سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے "مَنْ خَلَقَ تَخْلُقِي" یعنی خدا اس فن کار کے بارے میں کہے گا۔

ہوگا، شیخ محمد نجیح کے اس فتوے سے متعدد علماء کرام متفق ہیں اور میرا حجاج بھی اسی فتوے کی طرف ہے۔ چنانچہ میری رائے یہ ہے کہ تصویر لینے میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ بہ شرطے کہ وہ تصویر بہ ذات خود حلال ہو۔ یعنی کسی برہنہ یا نیم برہنہ عورت کی تصویر نہ ہو یا ایسے مناظر کی تصویر نہ ہو جو شرعاً جائز نہیں ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی یا اپنی اولاد کی دوستوں کی، فطری مناظر کی یا کسی تقریب کی تصویر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض ایسے ناگزیر حالات ہیں جن میں متفقہ طور پر تمام علماء نے تصویر لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ مثلاً پاسپورٹ وغیرہ کے لیے۔

رہی فنکاروں اور اداکاروں کی تصویریں لٹکانے کی بات تو یہ چیز کسی مسلمان شخص کو زیب نہیں دیتی۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ان اداکاروں کے گرویدہ ہیں اور ان کی دلچسپی انہی چیزوں میں ہے۔ البتہ کسی میگزین میں عورتوں کی تصویریں ہوں اور کوئی شخص اس میگزین کو اپنے گھر علمی استفادے کی خاطر لاتا ہے ان عورتوں کی تصویروں کی وجہ سے نہیں تو ایسی صورت میں اس میگزین کو گھر لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہ شرطے کہ میگزین کو کچھ اس طرح رکھا جائے۔ کہ تصویر کا صفحہ پوشیدہ رہے۔ بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ تصویر کا صفحہ پھاڑ دیا جائے۔

رہا سوال تصویروں کے دیوار پر لٹکانے کا تو یہ کسی طور جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے لٹکانے کا مطلب ہے ان کو تعظیم و تکریم سے نوازنا جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اسلامی شریعت میں یہ بات ہرگز جائز نہیں کہ کسی بندے کو اس طرح کی تعظیم و تکریم سے نوازا جائے۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ یوسف القرضاوی

اجتماعی معاملات، جلد: 1، صفحہ: 362

محدث فتویٰ